

ہوم اکنامکس (SLO Based)

PR - IX (A-I-A) (24)

۱۔ ہر سوال کے سامنے چار دائرے دیئے گئے ہیں۔ صرف صحیح جواب والا دائرہ بھریں۔

۲۔ دائروں کو شیڈ (بھرنے) کے لیے نیلے یا کالے رنگ کا پن استعمال کریں۔

۳۔ جواب میں ایک سے زائد دائرے بھرنے سے جواب غلط تصور ہوگا۔

سیکشن (الف)

وقت: ۲۰ منٹ

(۱) ہوم اکنامکس کی تعلیم فرد اور _____ کے درمیان تعلق کو بہتر سمجھنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔

○ خاندان ○ معاشرے ○ سکول ○ مسجد

(۲) ہوم اکنامکس کی ابتداء سب سے پہلے _____ سے ہوئی۔

○ امریکہ ○ نیدر لینڈ ○ انڈیا ○ یورپ

(۳) فہرست طعام بناتے وقت کس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے؟

○ اپنی ○ معاشرے کی ○ لوگوں کی ○ افراد خانہ کی

(۴) انسان کی بقاء کے لیے ہوا اور پانی کے بعد _____ بنیادی ضرورت ہے۔

○ غذا ○ لباس ○ گھر ○ خاندان

(۵) نشائے کی سب سے سادہ قسم _____ ہے۔

○ گلوکوز ○ فرکٹوز ○ کیٹوز ○ سکروز

(۶) چکنائی میں حل پذیر وٹامن _____ ہیں۔

○ اے، ڈی اور ای ○ اے، بی اور سی ○ ان میں کوئی نہیں ○ اے، بی اور سی

(۷) انسانی جسم میں پانی کا تناسب کتنا ہوتا ہے؟

○ 40 سے 50 ○ 60 سے 70 ○ 70 سے 80 ○ 80 سے 90

(۸) متوازن غذا کے _____ بنیادی غذائی گروہ ہیں۔

○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6

(۹) عورتوں کو _____ گرام لحمیات کی ضرورت ہوتی ہے۔

○ 26 ○ 36 ○ 46 ○ 56

(۱۰) _____ میں غذا کو اُبلتے ہوئے پانی میں پکایا جاتا ہے۔

○ دم پذیری ○ پوچنگ ○ بریزنگ ○ کوکنگ

(۱۱) میز پر کھانا پیش کرنے کے _____ بنیادی طریقے ہیں۔

○ 2 ○ 4 ○ 6 ○ 8

(۱۲) انسانی جسم میں کوئیوں کی تعداد _____ ہے۔

○ 36 ○ 46 ○ 56 ○ 66

(۱۳) بڑھوتری سے مراد انسانی جسم میں _____ ہے۔

○ خلیوں کا بڑھنا ○ خلیوں کا گھٹنا ○ خلیوں کا ٹوٹنا ○ ان میں کوئی نہیں

(۱۴) دوسرے سال کے آخر تک بچے _____ الفاظ بولنا سیکھ جاتا ہے۔

○ 150 ○ 250 ○ 350 ○ 450

(۱۵) لڑکپن کا دورانیہ _____ کی عمر پر محیط ہے۔

○ 13 تا 6 ○ 13 تا 7 ○ 13 تا 8 ○ 13 تا 11